

خیرمقدم

دبلن میں آپ کا خیرمقدم ہے

سٹی آف دبلن کی طرف سے، ہم آپ کا اور آپ کی فیملی کا والہانہ استقبال کرتے ہیں کیونکہ آپ یہاں دبلن میں اپنا نیا گھر بسانے جا رہے ہیں۔

ہم دبلن میں لوگوں کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے پر کاربند ہیں۔ اس کی عکاسی حالیہ [نیشنل سٹیزن سروے](#) میں نظر آئی ہے، جس میں ہمارے یہاں رہنے والے 99 فیصد لوگوں نے دبلن کو رہنے کے لیے ایک سب سے عمدہ یا اچھی جگہ مانا ہے۔ شاید آپ نے دبلن کی اطراف کی خوبصورتی، پارک اور بری بھری جگہوں کی وجہ سے دبلن کو اپنا جائے مقام بنایا۔ [یہاں آکر](#) جانیں کہ اپنی خوبصورت کمیونٹی کو قائم و دائم رکھنے میں ہماری مدد کرنے کے لیے آپ کے پاس کونس کونسی جانکاری ہونی چاہئے۔

یہ سٹی صاف و شفاف حکومت کے قیام کے پابند ہے اور ایسے بہت سارے طریقے ہیں جن سے آپ جڑ سکتے ہیں اور باخبر رہ سکتے ہیں۔ سٹی کی سروسز سے متعلق مزید معلومات کے لیے، سٹی کی لیڈرشپ سے متعارف ہونے کے لیے اور پروگرام کے جدول کے لیے ہماری ویب سائٹ ملاحظہ فرمائیں۔

سرگرمیوں کی بہتات ہے - [دبلن کمیونٹی تفریحی سنٹر](#) میں اپنی پسند کے فٹنس اور تفریح کے مواقع چنیں، [کمیونٹی پروگرام](#) میں شرکت کریں جیسے کہ ہمارا جشن یوم آزادی اور دبلن آئرش فیسٹیول، اور ہمارے 100 سے زیادہ [بانک پاتھ سسٹم](#) اور [60 پبلک پارک](#) کا جائزہ لیں۔ اس کے علاوہ، ہمارا مستحکم [رضاکارانہ پروگرام](#) سبھی عمر کے افراد کو ہماری کمیونٹی میں شامل ہونے کے بہت سارے آپشن پیش کرتا ہے۔

جب گھر والے یا دوست آئیں یا آپ کو کوئی مشورہ چاہئے، تو [visitdublinohio.com](#) پر دبلن کنونشن اور ویزیٹر بیورو کی ویب سائٹ ملاحظہ فرمائیں یا بسٹورک دبلن میں وزیٹر سنٹر کا دورہ کریں۔ اگر آپ کسی خاص ماحول یا ثقافت کے آرزومند ہیں، تو [دبلن آرٹس کاؤنسل](#) کے پارک، گیلری نمائش اور تخلیقی کلاسوں میں جا سکتے ہیں۔

ہماری کوشش اور چاہت ہے کہ آپ ان سبھی سروسز اور سہولیات سے واقفیت حاصل کر لیں اور ان کا فائدہ اٹھائیں جو سٹی آف دبلن کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کا خیرمقدم ہے! بصد خلوص،

دانا میک دانیل، سٹی مینیجر

میئر گریگ پیٹرسن